



إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنْظَرُ الْمُرْءُ مَا كَلَّمَتْ يَدَاهُ



ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا جس  
دن ہر شخص ان (اعمال) کو جوانسے آگے بھیجے ہونگے دیکھ لے گا

## Quran With Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

### سورة النبأ

اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)

(یہ) لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ (2)

(کیا) بڑی خبر کی نسبت؟

الَّذِي هُمْ فِيهِ لُخْتَلِفُونَ (3)

جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4)

دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے

تُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5)

پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6)

کیا ہم نے زمین کو بچونا نہیں بنایا

وَاجْبَالَ أَوْتَادًا (7)

اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں (نہیں ٹھیرا یا)

وَخَلَقْنَا كُمْ أَرْجُواجًا (8)

(بیشک بنایا) اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)

اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسَّا (10)

اور رات کو پرداہ مقرر کیا

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)

اور دن کو معاش (کا وقت) قرار دیا

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَّادًا (12)

اور تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (13)

اور (آنفاب کا) روشن چراغ بنایا

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً هَاجًا (14)

اور پھرستے بادلوں سے موسلا دھار میںہے بر سایا

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّاً وَنَبَاتًا (15)

تاکہ اس سے انماں اور سبزہ پیدا کریں

وَجَنَّاتِ الْفَاقَاتِ (16)

اور گھنے گھنے باغ

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17)

بیشک فیصلے کا دن مقرر ہے

يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18)

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہو گے

وَفُتَحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19)

اور آسمان کھولا جائے گا تو (اس میں) دروازے ہو جائیں گے

وَسُرِّيَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20)

اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21)

بیشک دوزخ گھات میں ہے

لِلْطَّاغِينَ مَا بَأْنَا (22)

یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے

لَا يُشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)

اس میں وہ مدتیں پڑے رہیں گے

لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24)

وہاں نہ ٹھنڈک کامز اچکھیں گے نہ (بچھ) پینا (نصیب) ہو گا

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا (25)

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ

جَزَاءً وَفَاقًا (26)

(یہ) بدلا ہے پورا پورا

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27)

یہ لوگ حساب آخوند کی امید ہی نہیں رکھتے تھے

وَكَذَّبُوا إِيمَانَنَا كَذَّابًا (28)

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے

وَمُلَلَّ شَيْءٍ أَحَصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)

اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا (30)

سو (اب) مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)

بیش پرہیز گاروں کے لئے کامیابی ہے

حَدَّ أَئِقَّ وَأَعْنَابًا (32)

(یعنی) باغ اور انگور

وَكَوَا عِبَ أَتْرَابًا (33)

اور ہم عمر نوجوان عورتیں

وَكَأَسَادِهَا قًا (34)

اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوَّا وَلَا كِذَّابًا (35)

وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ (خرافات)

جَزَاءً مِنْ تَرَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36)

یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثیر

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

وہ جو آسمانوں اور زمین اور جوان دونوں میں ہے سب کامالک ہے بڑا مہربان

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)

کسی کو اس سے بات کرنے کا یارانہ نہ ہو گا

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا

جس دن روح (الا میں) اور فرشتے صفات باندھ کر کھڑے ہوں گے

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَّابًا (38)

تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو (خداۓ) رحمٰن اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کی ہو

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

یہ دن برحق ہے۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا يَأْتِي (39)

پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا

ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آئیوالا ہے آگاہ کر دیا۔

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

جس دن ہر شخص ان (اعمال) کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا (40)

اور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہوتا



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)